



سوال

(533) نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ہمیشہ نماز فجر مسجد میں ادا کرتا ہوں اگر میں یہ دیکھوں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں انہیں سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لوں؟ اگر میں طلوع آفتاب تک انتظار کروں تو کیا اس سے اجر و ثواب میں کمی ہوگی؟ میں جانتا ہوں کہ صبح کی سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہر مسلمان آدمی نماز سے پہلے فجر کی سنتوں کو ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو نماز کے فوراً بعد ادا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد ادا کر لے کیونکہ سنت سے دونوں طرح ثابت ہے نماز کے فوراً بعد ادا کرنا سنت تقریری سے ثابت ہے۔ یعنی ایک شخص نے نماز کے فوراً بعد ان سنتوں کو ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس پر سکوت فرمایا اور اسے کچھ نہیں کہا۔ (دارقطنی 1/383'384 - بیہقی 2/283 - ابن خزیمہ 1116 - اسے ابن حبان اور ذہبی نے صحیح کہا ہے) (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)
حدامہ عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 437

محدث فتویٰ